.dyStar.UsStudySta r. UsStudyStar. UsStar. UsStudyStar. UsStudy tan UsStudyStan Us JeStudyStar-UsStudyStar n.UsStudyStan.UsStan.UsStudyStan.UsStudyStan.UsStudyStan.UsStudyStan.UsStudyStan.UsStudyStan.UsStudyStan.UsStudyStan.UsStudyStan.UsStudyStan.UsStudyStan.UsStudyStan.UsStudyStan.UsStudyStan.UsStudyStan.UsStudySt dyStan USStudyStan USStudyStan StudyStan USStudyStan U dyStan.UeStudyStan StudyStan-UsStudyS s StudyStar. UsStudyStar. UsStu JuStudyStar, UsStudyStar, UsStu USEudyStan-USEudyStanitar. UsStudyStar. tudyStan.UsStudyStanStudyStan.UsStan.UsStudyStan.UsStu sStudyStar-UsStudy StudyStar, UsStudyStar, UsStudy ten UsStudyStan, U dyStan.UsStudyStan . UsStudyStan. UsS itudyStan.UsStan.UsStudyStan.U JoStudyStar.UsStudyStar ar Study Star, Us Stu

ANSWER SCHEME

Homeostasis

Section A

- 1. C
- 2. B
- 3. B
- 4. A
- 5. B
- 6. B
- 7. A
- 8. B
- 9. C
- 10.C

Section B

- 11. The hypothalamus
- 12.Osmoregulation
- 13. Thermoregulation
- 14.37°C
- 15.Glucagon

Section C

- 16.
- > The brain
- > The kidneys
- > The skin
- 17.
- > The erector muscle relaxes
- > The sweat glands become more active
- > The liver reduces rate of production of macromolecules
- 18.
- > To control water levels in the body
- > To control glucose levels in the body
- 19. The maintenance of a constant internal environment
- 20. There is little water in the blood



A top student's secret tool